

ماڈل پیپر "غذا اور غذائیت"

برائے سیکنڈری سکول پارٹ - II (جماعت دہم) امتحان 2014ء و مابعد

حصہ معروضی

10

کل نمبر: 12

وقت: 15 منٹ

نوٹ:- ہر سوال کے 4 (چار) ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

- 1- (i) ترپکانے کے طریقے میں کیا استعمال ہوتا ہے؟
 (A) پانی (B) چکنائی (C) کوئلے (D) اوون
- (ii) درمیانہ درجہ حرارت پر ڈھکن والے برتن میں پکانے کے طریقے کو کہتے ہیں۔
 (A) تنور پذیری (B) دم پذیری (C) اہلنا (D) سینکنا
- (iii) ماں کا دودھ بچوں کو کس عمر تک پلانا چاہیے؟
 (A) 6 ماہ تک (B) ایک سال تک (C) ڈیڑھ دو سال تک (D) دو سے ڈھائی سال تک
- (iv) پاکستان گندم کی پیداوار میں ایشیا کا کونسا بڑا ملک ہے؟
 (A) پہلا (B) دوسرا (C) تیسرا (D) چوتھا
- (v) خوراک اگر مرغوب بنائی جائے تو کس پر خوشگوار اثر پڑے گا؟
 (A) افراد خانہ (B) خاتون خانہ (C) میز کی سجاوٹ (D) عرق ہاضمہ
- (vi) منتخب کردہ کھانوں یا غذاؤں کی فہرست کو کہتے ہیں۔
 (A) طعام (B) غذائیت (C) متوازن غذا (D) مینو
- (vii) عید الفطر یا عید الاضحیٰ پر کس نوعیت کا مینو پلان کیا جائے؟
 (A) روایتی (B) مہنگا (C) انواع و اقسام کا (D) ارزاں
- (viii) لفظ مینو (Menu) کس زبان کا لفظ ہے؟
 (A) انگریزی (B) اردو (C) ہندی (D) فرانسیسی
- (ix) میز پر کس جانب سے بیٹھنا چاہئے۔
 (A) دائیں (B) بائیں (C) سامنے (D) پیچھے
- (x) بونے کھانا پیش کرنے کا کیا انداز ہے؟
 (A) غیر رسمی (B) رسمی (C) پر تکلف (D) خوشگوار
- (xi) خوردنامیے کس طرح کے جرثومے ہوتے ہیں؟
 (A) موٹے موٹے (B) مہین اور جاندار (C) بڑے بڑے (D) نرم اور بد وضع
- (xii) سبزیوں کو نمجند کرنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟
 (A) بلائج کرنا (B) پکانا (C) خریدنا (D) رکھنا

ماڈل پیپر "غذا اور غذائیت"

برائے سیکنڈری سکول پارٹ۔ II (جماعت دہم) امتحان 2014ء و ما بعد

حصہ انشائی

کل نمبر: 63

وقت: 2:45 گھنٹے

(حصہ اول PART-I)

12 -2 کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

- (i) کھانا پکانے کے تین مقاصد کون کون سے ہیں؟
- (ii) دودھ کی غذائیت کیونکر برقرار رکھی جاسکتی ہے؟
- (iii) گوشت کو دھونے کا طریقہ بیان کیجئے۔
- (iv) مائیکرو ویو میں پکانے سے کیا مراد ہے؟
- (v) ابتدائی طبی امداد کٹ سے کیا مراد ہے؟
- (vi) دم پذیری سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجئے۔
- (vii) سبزیاں پکانے کے دو اصول بیان کیجئے۔
- (viii) دم پذیری سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجئے۔
- (ix) سبزیاں پکانے کے دو اصول بیان کیجئے۔

10 -3 کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

- (i) نقص غذائیت میں معاشیات کیا اہم کردار ادا کرتی ہے؟
- (ii) زرعی پیداوار کس طرح بڑھائی جاسکتی ہے؟
- (iii) معمر افراد کی غذائی ضروریات بیان کیجئے۔
- (iv) قبل از وقت غذا کی منصوبہ بندی کے فوائد تحریر کیجئے۔
- (v) مینوپلان میں آمدنی کیونکر اثر انداز ہوتی ہے؟
- (vi) درمیانہ آمدنی والے خاندانوں کیلئے مینو کیونکر پلان کیا جاسکتا ہے؟
- (vii) خوراک کا ادل بدل کر استعمال سے کیا مراد ہے؟
- (viii) مینوپلاننگ کی تعریف کیجئے۔

10 -4 کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

- (i) کھانا پیش کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ بیان کیجئے۔
- (ii) کورس (Course) سے کیا مراد ہے؟
- (iii) ٹرے میں کھانا پیش کرنے کا طریقہ لکھیے۔
- (iv) غذاؤں کو خراب کرنے والے کارندوں کے نام لکھیے۔
- (v) جرٹوموں کی کتنی اقسام ہیں ان کے نام لکھیے۔
- (vi) غذاؤں کو محفوظ کرنے کے اصول تحریر کیجئے۔
- (vii) طویل مدت کیلئے غذاؤں کو کیونکر محفوظ کیا جاسکتا ہے؟
- (viii) پھپھوندی یا آٹی سے کیا مراد ہے؟

(حصہ دوم PART-II)

نوٹ:- کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

- 7 5- محفوظ باورچی خانے کی خصوصیات بیان کیجئے۔
- 7 6- سکول جانے والے بچے کی غذائی ضروریات کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔
- 7 7- کھانوں میں جدت اور تنوع سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے۔
- 7 8- بونے طریقے سے کھانا پیش کرنے کا طریقہ لکھیے۔
- 7 9- غذاؤں کو محفوظ کرنے کی کیا اہمیت ہے؟

(حصہ سوم PART-III)

(حصہ پریکٹیکل)

نوٹ:- کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

- 5 -A باورچی خانے میں پیش آنے والے حادثات اور ان کی روک تھام کی تدابیر ایک چارٹ کے ذریعے واضح کیجئے۔
- 5 -B کم آمدنی والے خاندان اور سکول جانے والے بچوں کیلئے ایک دن کا مینو ترتیب دیجئے۔
- 5 -C فرنی تیار کرنے کا طریقہ لکھیے۔ نیز اشیاء ضرورت اور ان کی مقدار بھی لکھیے۔